

Attempt questions

- 1 Make a list of Nitrogen basses present in the double helix of DNA. 1 ڈی این اے ڈبل ہیکلس میں موجود نائٹروجن بیسسز کی لسٹ بنائیں۔
- 2 When did modern evolutionary theory begin? 2 ارتقاء کی جدید تھیوری کا آغاز کب ہوا؟
- 3 What are Homologous chromosomes? 3 ہومولوگس کروموسومز کیا ہوتے ہیں؟
- 4 What is meant by Gene and Locus. 4 جین اور لوکس سے کیا مراد ہے؟
- 5 Name main two sources of variation. 5 تغیرات کے دو بڑے ذرائع کے نام لکھیں۔
- 6 What is meant by Nucleosomes? 6 نیوکلیوسومز سے کیا مراد ہے؟
- 7 Describe the concept of Genotype with example. 7 جینوٹائپ کا تصور ایک مثال سے واضح کریں۔
- 8 What is chromatin material? 8 کروماتین میٹریل سے کیا مراد ہے؟

Attempt questions

- 1 Write a not on Replication of DNA. 1 ڈی این اے کی ریپلی کیشن پر نوٹ لکھیں۔
- 2 Explain the co-dominance ewith the example of blood group. 2 بلڈ گروپ کی مثال کے ساتھ کو-ڈومیننس کی وضاحت کیجئے۔